



S170CH04

چوتھی اکائی

آب و ہوا

اس اکائی میں بتایا گیا ہے

- کرہ ہوا۔ ترکیب اور ساخت؛ موسم اور آب و ہوا کے عناصر
- اشتعاع نمیں۔ زاویہ و قواعد اور تقسیم؛ زمین کا حرارتی بجٹ۔ کرہ ہوا کا گرم اور ٹھنڈا ہونا (ایصال، جمل، بری شعاع ریزی، ورزش فنی)؛ درجہ حرارت کو متاثر کرنے والے عوامل، درجہ حرارت کی تقسیم۔ فنی اور عمودی؛ درجہ حرارت کی تقلیب
- ہوا کا دباؤ۔ دباؤی پڑیاں؛ ہوا نئیں۔ سیاری، موئی اور مقامی، تودہ ہوا اور محاذ؛ ٹراپیکی اور بیرون ٹراپیکی سیyclون
- بارندگی۔ تبیر؛ تکشیف۔ شبتم، پالہ، کہرا، دھندا اور بادل؛ بارش۔ اقسام اور عالمی تقسیم
- عالمی آب و ہوا۔ درجہ بندی (کوپین)، گرین ہاؤس اثر، کروی حرارت کا بڑھنا اور آب و ہوا کی تبدیلیاں

کرہ ہوا کی بناؤٹ اور ساخت

گیسیں (Gases)

موسیات کی رو سے کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک بہت اہم گیس ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اوپر سے آنے والی شمسی شعاعوں کے لیے شفاف ہوتی ہے بلکہ اوپر چڑھنے والی ارضی شعاعوں کے لیے غیر شفاف ہوتی ہے۔ یہ ارضی شعاعوں کے کچھ حصے کو جذب کر لیتی ہے اور کچھ حصے کو سطح زمین کی طرف واپس لوٹادیتی ہے۔ نیز یہ بڑی حد تک گرین ہاؤس اثر (Green house effect) کے لیے ذمہ دار ہے۔ دوسرا گیسوں کی مقدار برقرار رہتی ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار پچھلی کچھ دہائیوں سے متواتر بڑھ رہی ہے جس کی اصل وجہ رکازی ایندھنوں (Fossil Fuels) کا استعمال ہے۔ اس نے ہوا کی درجہ حرارت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اوزون (Ozone) ایک اور اہم عنصر ہے جو سطح زمین سے 10 سے 50 کلومیٹر اوپر پایا جاتا ہے اور فلکی حیثیت سے کام کرتا ہے نیز سورج سے آنے والی بیش بخشی شعاعوں (Ultra-violet rays) کو جذب کر کے انہیں زمین کی سطح تک پہنچنے سے روکتا ہے۔

آبی بخارات (Water Vapours)

آبی بخارات بھی فضا میں پائی جانے والی ایک متغیر گیس ہے، جو بڑھتی اونچائی کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ گرم اور مرطوب منطقہ حارہ میں، مقدار کے اعتبار سے ہوا میں اس کا تناسب چار فیصد ہوتا ہے، جبکہ سرد اور خشک صحرائی علاقوں اور قطبی خطوں میں اس کا تناسب ایک فیصد سے بھی کم ہوتا

کیا کوئی شخص ہوا کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم دن میں تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں لیکن سانس ہر سینٹہ ہی لیتے ہیں۔ ہوا تمام جانداروں کی بقاء کے لیے ضروری ہے۔ انسان جیسے کچھ ذی روح کھانے اور پانی کے بغیر کچھ دیر تو زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ہوا میں سانس لیے بغیر چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کرہ ہوا کے بارے میں تفصیل سے جانے کی ضرورت ہے۔ دراصل کرہ ہوا مختلف قسم کی گیسوں کا آمیزہ ہے اور اس نے پوری زمین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ حیات بخش گیسوں کا مجموعہ ہے جیسے انسان اور حیوانات کے لیے آسیجن اور پیٹر پودوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ ہوا میں جسامت کا ایک لازمی جز ہے۔ کرہ ہوا کی جسامت کا ننانوے فیصد حصہ سطح زمین سے 32 کلومیٹر کی اونچائی تک محدود ہے۔ ہوا کوئی رنگ و بوئیں ہے اور اسے صرف تبھی محسوس کیا جاسکتا ہے جب وہ باد (wind) کی طرح بہنگتی ہے۔


کرہ ہوا کی ترتیب

(Composition of the Atmosphere)

کرہ ہوا گیس، آبی بخارات اور گرد و غبار کے اجزاء سے بنا ہوا ہے۔ کرہ ہوا کی بالائی سطحوں میں گیسوں کا تناسب بدلتا رہتا ہے چنانچہ 120 کیلو میٹر کی اونچائی پر آسیجن تقریباً نہیں کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات تو سطح زمین سے صرف 90 کلومیٹر کی اونچائی تک ہی پائے جاتے ہیں۔

طبیعی جغرافیہ کے مبادیات

13 کلو میٹر ہے۔ قطبین کے نزدیک تقریباً آٹھ کلو میٹر اور خط استوا کے



تصویر 8.1 کرہ ہوا کی ساخت

نزدیک تقریباً 18 کلو میٹر کی اونچائی ہے۔ کرہ متغیرہ کی موٹائی خط استوا پر سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ طاقتوں حملی روؤں کے ذریعہ حرارت کافی بلندی تک منتقل ہوتی ہے۔ اس پر ٹیکنے میں آبی بخارات اور دھول کے ذرات پائے جاتے ہیں۔ موسم اور آب ہوا کی تمام تبدیلیاں اسی پر ٹیکنے میں رونما ہوتی ہیں۔ اس پر ٹیکنے میں درجہ حرارت 165 میٹر کی اونچائی پر 10°C کی شرح سے گھٹتا جاتا ہے۔ یہ تمام حیاتیاتی سرگرمیوں کے لیے بہت ہی اہم طبق ہے۔ کرہ متغیرہ کو کرہ قائمہ سے الگ کرنے والے منطقہ کو کرہ متغیرہ ساکتہ (Tropopause) کہا جاتا ہے۔ کرہ متغیرہ ساکتہ کا درجہ حرارت خط استوا پر تقریباً 80°C اور قطبین پر منی 45°C کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت ہمیشہ تقریباً یکساں رہتا ہے، اور اسی لیے، اسے کرہ متغیرہ ساکتہ کہتے ہیں۔ کرہ قائمہ کرہ ساکتہ کے اوپر پایا جاتا ہے اور 50 کلو میٹر کی اونچائی تک پھیلا ہے۔ کرہ قائمہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اوزون کی پرتوں پر مشتمل ہے۔ یہ پرتوں بالا بخشی اشعاع کو

ہے۔ آبی بخارات بھی خط استوا سے قطبین کی جانب کم ہوتے جاتے ہیں۔

یہ مشمسی شعاع ریزی کے کچھ حصے کو جذب کر لیتے ہیں نیز ارضی شعاع ریزی کی گرمی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک کمبل کا کام کرتے ہیں، جس سے زمین نے توزیادہ ٹھنڈی ہونے پاتی ہے نے زیادہ گرم۔ آبی بخارات ہوا کے اندر استقر اور عدم استقر اکو ہمی متوازن رکھتے ہیں۔

دھول کے ذرات (Dust Particles)

کرہ ہوا کے اندر چھوٹے ٹھوس ذرات کو تھامے رکھنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ ذرات مختلف ذرائع سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً سمندری نمک، باریک مٹی، دھوکیں کی کاک، راکھ، پھولوں کا زیرا، دھول اور شہاب شاقد سے ٹوٹے ہوئے ذرات۔ دھول کے ذرات عموماً کرہ ہوا کی نچلی سطح میں مرکوز ہوتے ہیں، تاہم ہوا کی جملی روکیں (Convectional air currents) اسے کافی اونچائی تک پہنچا دیتی ہیں۔ استوائی اور قطبی علاقوں کی بہبود نیم ٹریاپیکی اور معتدل خطوط میں خشک ہوا کی وجہ سے دھول کا ارتکازہ زیادہ ہوتا ہے۔ دھول اور نمک کے ذرات ایک طور پر خوار مکرہ (Hygroscopic nuclei) کا کام کرتے ہیں جن کے ارد گرد آبی بخارات کی تکثیف ہوتی ہے اور بادل بنتے ہیں۔

کرہ ہوا کی ساخت

(Structure of the Atmosphere)

کرہ ہوا جدا گانہ کثافت اور درجہ حرارت والی مختلف پرتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سطح زمین کے نزدیک اس کی کثافت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی بڑھنے کے ساتھ گھٹتی جاتی ہے۔ فضا کی عمودی تقسیم پانچ مختلف پرتوں میں کی جاتی ہے جو درجہ حرارت کی صورتحال پر منحصر ہوتی ہے۔ انہیں کرہ متغیرہ (Troposphere)، کرہ قائمہ (Stratosphere)، کرہ متغیرہ ساکتہ (Mesosphere)، کرہ بیرونی (Exosphere)، کرہ آپیونی (Ionosphere) اور کرہ بیرونی (Exosphere) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

کرہ متغیرہ فضا کی سب سے پچھی پر ٹیکنے میں آبی بخارات اونچائی

کرہ آیون سے اوپر کرہ ہوا کی سب سے بالائی پرت کو کرہ بیرونی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اوپر کی پرت ہے لیکن اس کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہو سکی ہیں۔ اس پرت میں جو بھی مادے ہیں ان کی پرت کافی پتلی ہے اور بتدریج خلا میں ختم ہو جاتی ہیں۔ گرچہ کرہ ہوا کی تمام پروں کا اثر ہم پر پڑتا ہے لیکن جغرافیہ وال کرہ ہوا کی پہلی دو پروں سے زیادہ متعلق نظر آتے ہیں۔

موسم اور آب و ہوا کے عناصر (Elements of Weather and Climate)

کرہ ہوا کے خاص عناصر جن میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور جو زمین پر انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، وہ ہیں: درجہ حرارت، دباؤ، بیتی ہوا، رطوبت، بادل اور بارش و برف۔ ان عناصر کے بارے میں باب 9، 10 اور 11 میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

جدب کر لیتی ہیں اور زمین پر زندگی کو توانائی کی شدید مضر قسم سے تحفظ عطا کرتی ہیں۔

کرہ متوسطہ کرہ قائمہ کے اوپر پایا جاتا ہے جو 80 کلومیٹر کی اونچائی تک پھیلا ہے۔ اس پرت کے اندر پھر سے درجہ حرارت اونچائی کے بڑھنے کے ساتھ گھنٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 80 کلومیٹر کی اونچائی پر درجہ حرارت منفی⁰ 100 تک پہنچ جاتا ہے۔ کرہ قائمہ کی بالائی حد کو کرہ قائمہ ساکتہ (Mesopause) کہتے ہیں۔ آیونی کرہ متوسط (Mesopause) ساکتہ کے اوپر 80 کلومیٹر اور 400 کلومیٹر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس میں بھلی سے چارج شدہ ذرات پائے جاتے ہیں جنہیں آیون (Ions) کہا جاتا ہے اس لیے اسے کرہ آیون کہتے ہیں اور زمین سے بھیجی جانے والی ریڈیاٹی لہریں اس پرت کے ذریعہ زمین پر واپس لوٹ آتی ہیں۔ یہاں اونچائی کے ساتھ درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔

مشق

1۔ کشیر انتخابی سوالات:

(i) درج ذیل میں کون سی گیس کرہ ہوا میں سب سے زیادہ ہے؟

(اف) آسیجن (ب) آرگن

(ج) ناٹریجن (د) کاربن ڈائی آسائیڈ

(ii) انسانی زندگی کے لیے کرہ ہوا کی کون سی اہم پرت ہے:

(اف) کرہ قائمہ (ب) کرہ متغیرہ

(ج) کرہ متوسط (د) کرہ آیون

(iii) سمندری نمک، زیرے، راکھ، دھواں کے ذرات، باریک مٹی۔ یہ سب ذیل میں سے کس سے جڑے ہیں؟

(اف) گیس (ب) دھول کے ذرات

(ج) آبی بخارات (د) شہاب ثاقب

طبیعی جغرافیہ کے مبادیات

(iv) کرۂ ہوا کی کس بلندی پر آسیجن گیس کی مقدار برائے نام رہ جاتی ہے؟

(الف) 90 کلومیٹر (ب) 120 کلومیٹر

(ج) 100 کلومیٹر (د) 150 کلومیٹر

(v) درج ذیل میں کون سی گیس آنے والی اشتعاع نہشی کے لیے شفاف ہے اور جانے والی ارضی اشتعاع ریزی کے لیے غیرشفاف ہے؟

(الف) آسیجن (ب) ناٹروجن

(ج) ہیلیم (د) کاربن ڈائی آکسائڈ

2۔ درج ذیل سوالات کا تقریباً 30 لفظوں میں جواب لکھیں:

(i) کرۂ ہوا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

(ii) موسم اور آب و ہوا کے عناصر کیا ہیں؟

(iii) کرۂ ہوا کی ترکیب کو بیان کریں۔

(iv) کرۂ ہوا کی تمام پرتوں میں کرۂ متغیرہ سب سے اہم کیوں ہے؟

3۔ درج ذیل سوالات کا تقریباً 150 لفظوں میں جواب لکھیں:

(i) کرۂ ہوا کی ترکیب کو بیان کریں۔

(ii) کرۂ ہوا کی ساخت کے لیے ایک مناسب ڈائی گرام بنائیں۔ اس پر لیبل لگائیں اور اس بارے میں بتائیں۔